

25 جولائی 2018

برامپٹن میں نئے آنے ہیں؟ ایک مفت بس ٹوئر کے لیے رجسٹر ہوں!

برامپٹن، آن – سٹی آف برامپٹن نئے آنے والے شہریوں کو شہر کی تاریخ اور اپنی سروسز سے روشناس کرانے کے لیے بروز منگل مورخہ 21 اگست اور بروز جمعرات مورخہ 23 اگست کو مفت اور خاندان دوستانہ بس ٹوئرز کی پیشکش کر رہا ہے۔

سٹی اپنے تفریحی شعبے، برامپٹن ٹرانزٹ اور برامپٹن لائبریری کے درمیان شراکت داری سے یہ ایوارڈ یافتہ کمیونٹی پروگرام 2009 سے اپنے شہریوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔

تین گھنٹے پر مشتمل ٹوئر کی تفصیلات:

- تفریحی مواقع اور سہولیات کے بارے میں جاننے کے لیے کمیونٹی سنٹر کا دورہ
- دستیاب متنوع وسائل اور یہ کہ ان تک رسائی کیسے حاصل کرنی ہے، کے بارے میں جاننے کے لیے چھ لائبریریوں میں سے کسی ایک میں نئی چیزیں دریافت کرنے کا موقع
- برامپٹن ٹرانزٹ کی کسی بس پر سفر کریں اور برامپٹن ٹرانزٹ کے نقشے، PRESTO کے کرایے کے کارڈز کے فوائد اور یہ کہ سواریوں کو کب ایک تبادلیے کی ضرورت پڑتی ہے، کے بارے میں ورکشاپ کا انعقاد

ٹوئر کا مقصد معلومات افزائی اور تفریح کی فراہمی ہے، جس میں ماحول کو تعلیمی اور پرلطف رکھنے کے لیے کوئز اور انعامات شامل ہیں۔

رجسٹریشن جاری ہے! 1 جنوری، 2015 کے بعد برامپٹن میں منتقل ہونے والے رہائشیوں کو شرکت کی دعوت دی جارہی ہے۔ مزید معلومات کے لیے، برامپٹن لائبریری سے 905.793.4636 پر رابطہ کریں، برامپٹن لائبریری کی کسی شاخ میں تشریف لائیں یا www.brampton.ca/recreation ملاحظہ کریں۔

اقتباس

یہ بس ٹوئر برامپٹن کے نئے رہائشیوں کو میونسپل سروسز کے بارے میں ایسی خدمات کے ساتھ خوش آمدید کہنے کا ایک جدت پسند طریقہ ہے، جو ان کی روزمرہ کی زندگیوں میں معاونت فراہم کرتی ہیں اور انہیں بھرپور بناتی ہیں۔ اس پروگرام میں پیش کی جانے والی براہ راست تربیت اور ذاتی پہلو ہمارے شہر میں نئے آباد ہونے والے لوگوں کو ایک مزید دوستانہ مقام بنانے میں مدد کرتے ہیں۔"

- میئر لنڈا جیفری

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئرز اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔